

ROOTWORDS OF SURAH AL KAHF 60-70

حُقُبًا	أَمْضَى	أَبْلَغَ	أَبْرَحُ	لِ+فَتَى+هُ
ح ق ب	م ض ي	ب ل غ	ب ر ح	حرف + ف ت ي + ضمیر
برسوں / مدتوں	میں چلتا رہوں گا	میں پہنچ جاؤں	میں پٹوں گا	نوجوان کو / غلام کو + اپنے
(for) a long period	I continue	I reach	I will cease	to his boy

لَقِيَ+نَا	غَدَاءَ+نَا	جَاوَزَا	سَرَبَا	حُوتَ+هُمَا
ل ق ي + ضمیر	غ د و + ضمیر	ج و ز	س ر ب	ح و ت + ضمیر
ملاقات کی + ہم نے	ناشتہ / دوپہر کا کھانا + ہمارا	وہ آگے بڑھے	سرنگ کی طرح	مچھلی کو + اپنی
we have suffered	our morning meal	they had passed beyond	slipping away	their fish

فَ+أَرْتَدَّا	نَ+بِغِ	الصَّخْرَةَ	أَوْى+نَا	نَصَبًا
حرف + ر د د	ضمیر + ب غ ي	ص خ ر	ا و ي + ضمیر	ن ص ب
تو + وہ دونوں پلٹے	ہم چاہتے	چٹان کی	پناہ لی تھی + ہم نے	تھکاوٹ سے
So they returned	seeking	the rock	we retired	fatigue

أَحْدِثَ	أَعْصِي	تُحِطُ	قَصَصًا	ءَأَثَارِ+هِمَا
ح د ث	ع ص ي	ح و ط	ق ص ص	أ ث ر+ضمير
میں بیان کروں	میں نافرمانی کروں گا	تم نے احاطہ کیا	نشان قدم تلاش کرتے ہوئے	نشانوں اپنے
I present	I will disobey	you encompass	retracing	their footprints